

عزت مآب محمد نواز شریف

وزیر اعظم

سیکرٹریٹ وزیر اعظم

اسلام آباد، پاکستان

2118 Kalorama Rd., N.W.

محترم وزیر اعظم نواز شریف صاحب،

میں کمیٹی برائے تحفظ صحافیان (Committee to Protect Journalists) کی جانب سے آپ کو سزا سے بے خوفی ختم کرنے کے بین الاقوامی دن (International Day to End Impunity) کے موقع پر 23 نومبر کو سزا سے بے خوفی (امپونٹی، impunity) کے خلاف بولنے کی دعوت دینے کے لئے لکھ رہا ہوں۔

23 نومبر 2011 کے بعد سے، دنیا بھر میں معاشرے کے نجی طبقے (سول سوسائٹی) کے گروہ ہر سال ان لوگوں کے لئے انصاف طلب کرنے کی غرض سے اکٹھے ہوتے ہیں جن کو ان کے از ادی اظہار کا حق استعمال کرنے کی پاداش میں نشانہ بنایا گیا ہو، بشمول صحافیان، تحریکوں کے سرگرم کارکنان، فنکار اور موسیقار۔

CPJ کی تحقیق کے مطابق پاکستان میں صحافی، تشدد کا نشانہ بننے اور اس کی پکڑ نہ ہونے پر مجرموں میں سزا سے بے خوفی کا احساس بڑھنے اور نتیجتاً مزید تشدد کے جس ہولناک چکر میں گرفتار ہیں وہ دنیا کی ابتر ترین مثالوں میں سے ہے۔ وہاں کے صحافی نہ صرف عسکریت پسندوں، جرائم پیشہ افراد اور جنگجو رہنماؤں بلکہ سیاسی، فوجی اور سراغ رسانی کے کارکنوں کا نشانہ بھی بنتے ہیں۔ گزشتہ عشرے میں، کم از کم 24 صحافیوں کو ان کے کام کی وجہ سے نشانہ بنا کر قتل کیا گیا، جس کی حالیہ ترین مثال جرائم کے رپورٹر ایوب خٹک کی ہے جنہیں ابھی گزشتہ ماہ ہی ان کے گھر کے سامنے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ ان واقعات کے کسی ایک بھی مرتکب کو سزا نہیں دی گئی، جس کے باعث پاکستان CPJ کے سزا سے بے خوفی کے اشاریہ (امپونٹی انڈیکس، Impunity Index) برائے 2013 میں آٹھویں نمبر پر ہے۔ یہ اشاریہ ان ممالک کی نشاندہی کرتا ہے جہاں صحافی باقاعدگی سے قتل کیے جاتے ہیں اور قاتل آزاد پھرتے ہیں۔ ان میں سے بعض مقدمات پر کام کرنے والے سرکاری وکلاء کو دھمکیاں دی گئی ہیں اور متعدد گواہان اور تفتیش کاروں کو مار ڈالا گیا ہے۔

اس رجحان کو بدلنے کا ایک موقع موجود ہے۔ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو اقوام متحدہ کے، صحافیوں کے تحفظ اور سزا سے بے خوفی کے مسئلہ کے حل میں (UN Plan of Action for the Safety of Journalists and Issue of Impunity) تشکیل کردہ لائحہ عمل کے نفاذ کی حکمت عملی کے سلسلے میں مرکزی توجہ کے حامل ہیں، جس کا اجرا اس سال کے اوائل میں ہوا۔ اس کوشش کے تحت پاکستان میں، میڈیا، سول سوسائٹی اور بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندے تحفظ کو بہتر بنانے اور سزا سے بے خوفی کا مقابلہ کرنے کی خاطر اقدامات تجویز کرنے کے لئے اکٹھے ہوئے، جس میں پاکستان کے قومی اتحاد برائے تحفظ ذرائع ابلاغ کی قیادت کی کمیٹی (Steering Committee of Pakistan's National Coalition on Media Safety) کی تشکیل شامل ہے۔

پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید نے 8 اکتوبر کو اس قیادت کی کمیٹی (Steering Committee) میں شرکت کی، جس میں انہوں نے اقوام متحدہ کے لائحہ عمل کے لئے سرکاری حمایت کا بیان دیا۔ انہوں نے صحافیوں کے خلاف حملوں کی تفتیش کے لئے ایک خصوصی سرکاری وکیل کی تقرری کی منظوری کا اظہار بھی کیا۔

سزا سے بے خوفی ختم کرنے کے بین الاقوامی دن (International Day to End Impunity) کے موقع پر آپ کے دفتر کی جانب سے ایک پرزور بیان اس بات کے اظہار میں قوی اثرات کا حامل ہوگا کہ آپ کی انتظامیہ ان وعدوں کو پورا کرنے کی سیاسی استطاعت رکھتی ہے۔

ہم امید کرتے ہیں کہ آپ انصاف کا ساتھ دینے کے لیے 23 نومبر کو ہمارے ساتھ اور دنیا بھر کی متعدد آوازوں کے ساتھ شامل ہوں گے۔

مخلص،

جوئل سائمن (Joel Simon)